



سوال

(172) بلیک میں خرید و فروخت کرنا

جواب

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ

آج کل عام طور پر بلیک مارکیٹ کی خرید و فروخت جاری ہے جو بغیر کراہیت طرفین کی رضامندی سے ہوتی ہے۔ کنٹرول نرخ سے خریدی ہوئی چیز بلیک میں اصل قیمت کئی گنا زیادہ پر فروخت کی جاتی ہے۔ علماء کا خیال بلیک مارکیٹ کے متعلق مختلف ہے۔ بعض جائز و حلال کہتے ہیں اور بعض ناجائز حرام کہتے ہیں!۔

برائے مہربانی اس مسئلہ کو قرآن و حدیث کی روشنی میں تحقیق فرما کر جواب عنایت فرمائیں۔

الجواب بعون الوهاب بشرط صحیحہ السؤال

و علیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ!

الحمد للہ، والصلاة والسلام علی رسول اللہ، أما بعد!

میرے نزدیک بلیک کرنا مطلقاً جائز ہے اور نہ مطلقاً ممنوع بلکہ تفصیل کی ضرورت ہے۔ کنٹرول ریٹ سے جو مال حاصل کیا گیا ہو اس کو مقرر نرخ پر ہی فروخت کرنا چاہئے۔ اس میں بلیک مارکیٹ کرنا دوسروں کی ضرورت سے ناجائز فائدہ اٹھانا ہے اور یہ انتہائی خود غرضی بے مروتی اور نخل و حرص کی علامت ہے۔ آنحضرت ﷺ نے بیع مضطر سے منع فرمایا ہے (البوداود)

البتہ جس تاجر اور ایجنس دار کو کنٹرول کی چیز کنٹرول ریٹ سے نیٹے اور مال چور بازار کی طرح مقرر نرخ سے زائد دام دے کر حاصل کرنا پڑے اور بغیر زائد قیمت دینے ہوئے مال ہی نیٹے اور وہ کوئی دوسرا ذریعہ معاش بھی نہ اختیار کر سکے تو ایسے تاجر اور دوکاندار کے لئے کنٹرول سے زائد نرخ پر بلیک کرنے میں مضائقہ نہیں مگر ایک مناسب حد تک یعنی: اس حد تک کہ زائد قیمت جو وہ وصول کرنی چاہتا ہے غبن فاحش میں داخل نہ ہو۔

آج کل بعض بلکہ بہتوں نے بلیک کو ذریعہ معاش بنا لیا ہے۔ یہ ذریعہ معاش بلاشبہ مشکوک و مشتبہ ضرور ہے۔ اس لئے اس سے اجتناب کرنا چاہئے۔

حذا ما عندی واللہ أعلم بالصواب

فتاویٰ شیخ الحدیث مبارکپوری



مجلس البحث والدراسات
محدث فتویٰ

جلد نمبر 2 - کتاب البیوع

صفحہ نمبر 360

محدث فتویٰ